



## ATSAKYMŲ LAPAS

Čia priklijuokite  
kandidato kodą

Atsakymus į klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais žymėkite taip:

Jei suklysite pasirinkdami atsakymą, taisyti galėsite tam skirtose vietose „Taisykite čia“. Parašykite taisomo klausimo numerį (pvz., 05) ir pažymėkite kitą pasirinktą atsakymą. Anksčiau pasirinkto atsakymo neužbraukite. **Būkite atidūs!**

### I. HÖRVERSTEHEN

#### Teil 1

- |                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01. A <input type="checkbox"/> | 02. A <input type="checkbox"/> | 03. A <input type="checkbox"/> | 04. A <input type="checkbox"/> | 05. A <input type="checkbox"/> |
| B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     |
| C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     |
| 06. A <input type="checkbox"/> | 07. A <input type="checkbox"/> | 08. A <input type="checkbox"/> | 09. A <input type="checkbox"/> | 10. A <input type="checkbox"/> |
| B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     |
| C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     |

Taisykite čia:

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   | Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   | Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   | Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   | Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   |
| <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> |
| C <input type="checkbox"/>   | C <input type="checkbox"/>   | C <input type="checkbox"/>   | C <input type="checkbox"/>   | C <input type="checkbox"/>   |

#### Teil 2

- |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11. A <input type="checkbox"/> | 12. A <input type="checkbox"/> | 13. A <input type="checkbox"/> | 14. A <input type="checkbox"/> |
| B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     | B <input type="checkbox"/>     |
| C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     | C <input type="checkbox"/>     |

Taisykite čia:

- |  |  |
|--|--|
| Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   | Kl. nr. A <input type="checkbox"/>                                   |
| <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> B <input type="checkbox"/> |
| C <input type="checkbox"/>   | C <input type="checkbox"/>   |

Wörterzahl: \_\_\_\_\_

